

26 فروری 2019

برامپٹن کے 2019-2021 کے لیے مجوزہ بجٹ کا مقصد معیشت اور معیار زندگی کو بہتر بنانا ہے

برامپٹن، آن (26 فروری 2019) – ایک بڑے شہری کردار کے طور پر تحریک پیدا کرتے ہوئے، برامپٹن کا 2019-2021 کا مجوزہ بجٹ معاشی ترقی کے لیے مواقع پیدا کرنے، معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہتر پروگرام اور خدمات فراہم کرنے اور ایک اچھی طرز پر چلائے جانے والے شہر کے طور پر اپنی کارکردگی کو جاری رکھنے پر مرکوز ہے۔

سٹی آف برامپٹن نے عوامی نظرثانی اور تبصروں کے لیے اپنا 2019-2021 کا مجوزہ بجٹ جاری کر دیا ہے۔

موصول ہونے والی ہر قسم کی آراء کو 18 مارچ سے شروع ہونے والے بجٹ پر غور و خوض کے دوران مدنظر رکھا جائے گا، جس کی حتمی منظور سٹی کونسل 27 مارچ کو دے گی۔

2019-2021 کے مجوزہ بجٹ کی شہ سرخیاں

- تین سال کے دوران برامپٹن ٹرانزٹ کے بیڑے میں 16 فیصد اضافہ، جس میں 46 روایتی بسیں اور 24 زوم بسیں شامل ہوں گی۔
- شمال مغربی برامپٹن میں ایک نئے فائر اسٹیشن کا قیام؛ زیادہ بھروسے مند جوابی کارروائی کی صلاحیت کے لیے آگ پر قابو پانے کے سامان اور آلات کی تجدید کرنا۔
- کرس گیس، ہاؤٹن اور بالمورل ریکریٹیشن سنٹرز کی تجدید نو کرنا؛ چنگواکوسی ویلنڈس سنٹر کی تجدید کرنا؛ رورسٹون گلڈ کلب کو 34,000 مربع فٹ رقبہ کے ایک کمیونٹی سنٹر میں تبدیل کرنا۔
- ایک نیا مارکیٹنگ اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ (FDI) پروگرام تشکیل دینا؛ اور برامپٹن کے اکنامک ڈیولپمنٹ ماسٹر پلان میں تعین شدہ معاشی شعبوں کو تحریک دینے کے لیے ایک کمیونٹی امپروومنٹ پلان تخلیق کرنا۔
- ایک سنٹر فار انوویشن اینڈ کنیکٹڈ لرننگ قائم کرنے کے لیے کام کرنا۔
- رورواک پراجیکٹ کے لیے ماحولیاتی جائزہ لینا اور ایک اربن ڈیزائن ماسٹر پلان کا نفاذ کرنا۔
- مستقبل میں ٹرانزٹ کی بڑھوتری کی ضروریات کے لیے فنڈنگ کا ایک وقف کردہ، مستحکم ذریعہ فراہم کرنے کے لیے ایک فیصد ٹرانزٹ ڈیڈیکٹیو لیوی (جو اوسط سالانہ ٹیکس بل پر \$23 کے برابر ہے) متعارف کروانا۔

انفراسٹرکچر لیوی اور مجوزہ ٹرانزٹ لیوی کے ساتھ بھی، کل بجٹ میں سٹی کے حصے میں 0.8 فیصد کا اضافہ تقریباً 20 سال میں کم ترین ہے۔ ٹیکس دہندگان کے لیے، 2019 میں ان کے ٹیکس بل پر پراپرٹی ٹیکس کا مجموعی اضافہ 1.4 فیصد ہو گا۔ اس میں سٹی (0.3%)، ریجن آف پیل (1.1%) اور اسکول بورڈز (0%) کی جانب سے ٹیکس میں اضافہ شامل ہے۔

عوامی فیڈبیک کے مواقع

- آن لائن رابطہ فارم کے ذریعے یا 2019Budget@brampton.ca پر ای میل کر کے سوالات پوچھیں یا تبصرے فراہم کریں۔
- اپنا سوال جمع کروانے کے لیے 311 کو کال کریں۔
- 4 مارچ کو شام 6 سے 7 بجے تک ٹیلیفون ٹاؤن ہال میں شرکت کریں، جس میں ایک بے ترتیب طریقے سے منتخب شدہ کچھ فون نمبرز پر کال کی جائے گی۔ اپنے فون نمبر کو کال لسٹ میں شامل کرنے کے لیے 3 مارچ تک سٹی کی ویب سائٹ پر سائن اپ ہوں۔
- 18 مارچ (صبح 9:30 تا شام 5) اور 20 مارچ (دوپہر 3 تا شام 7) سٹی ہال میں بجٹ کمیٹی کی میٹنگز میں شرکت کریں۔ اضافی تاریخیں 25 مارچ (صبح 9:30 تا 12) اور 26 مارچ (صبح 9:30 تا شام 5) ہیں۔
- 27 مارچ (شام 7 - رات 10) کو اسپیشل کونسل کی ایک میٹنگ میں شرکت کریں، جب کونسل کی جانب سے بجٹ کی منظوری طے شدہ ہے۔
- بجٹ کمیٹی یا بجٹ کی منظوری کی کونسل کی میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے نمائندگی کی ایک درخواست جمع کروائیں

"برامپٹن تیزی سے بڑھوتری دیکھ رہا ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایک ایسا بجٹ لائیں، جو ٹیکس دہنگان کے لیے قدر کو زیادہ سے زیادہ بڑھاتے ہوئے بڑھوتری کے تقاضوں کے لیے پوری طرح منصوبہ بندی کرے۔ بجٹ میں کل مجوزہ اضافے میں سے سٹی کا حصہ تقریباً 20 سالوں میں کم ترین ہے، مگر یہ پھر بھی خدمات، پروگراموں اور سہولیات کو توسیع شدہ دائرہ فراہم کرنے کے قابل ہے۔ بجٹ پر غور و خوض میں عوامی رائے بنیادی حیثیت رکھتی ہے اور ہم رہائشیوں، کاروباروں اور کمیونٹی کے گروہوں کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ وہ کونسل کو مطلع رکھنے میں مدد دیں، جبکہ ہم 18 مارچ کو بجٹ پر غور و خوض شروع کر رہے ہیں۔"

- میئر پیٹرک براؤن

30--

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع آرین سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹوئٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر فالو کریں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

Monika.Duggal@brampton.ca | 905-874-3426